

## Friday Prayer

## صلوٰۃ جمعہ

1. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠-٩﴾

مومنو! جب جمعے کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کے لئے جلدی کرو اور کاروبار ترک کر دو۔ اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے ﴿١٠﴾ پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ ﴿١٠﴾ (62: Al-Juma'h\ 9-10)

O you who believe! When the call is proclaimed to prayer on Friday, hasten earnestly to the remembrance of Allah, and leave off business. That is best for you if you knew! ﴿١٠﴾ And when the prayer is finished, then may you disperse through the land, and seek of the Bounty of Allah: and celebrate the Praises of Allah often: that you may prosper. ﴿١٠﴾

(62: Al-Juma'h\ 9-10)

## Late Night Prayer

## صلوٰۃ تہجد

1. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ لَهُ وَتَحَنُّدْ لَهُ نَافِلَةً ۗ لَكَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَكْمُودًا ﴿١٧﴾

اور کسی وقت رات میں تہجد پڑھا کریں جو آپ کیلئے زائد چیز ہے قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں پہنچا دے۔ ﴿١٧﴾ (m: 17\ بنی اسرائیل / 9)

And during a part of the night, pray Tahajjud beyond what is incumbent on you; maybe your Lord will raise you to a position of great glory. ﴿١٧﴾ (17: Al-Isra / Bani Israel\ 79)

2. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٧٦﴾

اور کچھ حصہ رات میں بھی اس کو سجدہ کیجئے اور رات میں دیر تک اس کی تسبیح کیجئے۔ ﴿٧٦﴾

(76: Al-Ins'an / Ad-Dhar\ 26)

And during part of the night adore Him, and glorify Him (a) long (part of the) night. ﴿٧٦﴾ (76: Al-Ins'an/ Ad-Dhar\ 26)

3. **أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةً رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝**

(کیا کافر بہتر ہے) یا وہ جو رات کے اوقات میں سجدہ اور قیام کی حالت میں عبادت کر رہا ہو آخرت سے ڈر رہا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید کر رہا ہو کہہ دو کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں سمجھتے وہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ ﴿39: 9﴾

Is he who is obedient during hours of the night, prostrating himself and standing, dreads the hereafter and hopes for the mercy of his Lord! Say: Are those who know and those who do not know alike? Only the men of understanding are mindful ﴿39: Az-Zumar\ 9﴾

### ہنگامی حالات میں صلوٰۃ Prayer in Emergency

1. **حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ۖ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدِّبُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝**

(مسلمانوں) سب نمازیں خصوصاً صبح کی نماز پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو۔ اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو ﴿﴾ اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار پھر جب امن ہو جائے تو جس طریق سے اللہ نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے اللہ کو یاد کرو۔ ﴿2﴾ (238-239)

Guard strictly your prayers, especially the middle prayer; and stand with devotion before Allah. ﴿﴾ If you fear pray on foot, or riding, but when you are secure, remember as He has taught you, which you knew not. ﴿﴾ (2: Al-Baqarah\238-239)

2. **وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۖ إِنَّ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ إِنَّ الْكُفْرَيْنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ۗ وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقِمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَافِيَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَا خُدُّوْا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَّرَائِكُمْ ۖ وَآتَتْ طَافِيَةً أُخْرَىٰ لَمْ يَصَلُّوا فَلْيَصَلُّوا مَعَكَ وَلِيَا خُدُّوْا جُدْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۖ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَبْسِلُونَ عَلَيْكُمْ مَبِيلَةً ۖ وَاحِدَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أذىٌ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُدُّوْا جُدْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّبِينًا ۖ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَرُكُوعًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۖ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ**

### عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّقْشُورًا

اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے ادا کرو بشرطیکہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ایذا دیں گے بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں ﴿۴﴾ اور (اے پیغمبر) جب آپ ان (مجاہدین کے لشکر) میں ہوں اور ان کو نماز پڑھانے لگیں تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت آپ کے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی رہے جب وہ سجدہ کر چکیں تو پرے ہو جائیں پھر دوسری جماعت جس نے نماز ادا نہیں کی (ان کی جگہ) آئے اور ہوشیار اور مسلح ہو کر آپ کے ساتھ نماز ادا کرے کافراں گھات میں ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر یکبارگی حملہ کر دیں اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو مگر ہوشیار ضرور رہنا اللہ نے کافروں کے لئے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے ﴿۴﴾ پھر جب تم نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے (ہر حالت میں) اللہ کو یاد کرو پھر جب خوف جاتا رہے تو (اس طرح سے) نماز ادا کرو (جس طرح امن کی حالت میں ادا کرتے) بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات (مقررہ) میں ادا کرنا فرض ہے۔ ﴿۴﴾ (4: 101-103)

When you travel through the earth, there is no blame on you if you shorten your prayers, for fear that the unbelievers may trouble you. For the unbelievers are your open enemies. ﴿۴﴾ When you are with them, and stand to lead them in prayer, let one party of them stand up with you, taking their arms with them. When they finish their prostrations, let them take their position in the rear. And let the other party come up which has not yet prayed - and let them pray with you, taking all precaution, and bearing arms. The unbelievers wish, if you were negligent of your arms and your baggage, to assault you in a single rush. But there is no blame on you if you put away your arms because of the inconvenience of rain or because you are ill, but take (every) precaution for yourselves. For the unbelievers Allah has prepared a humiliating punishment. ﴿۴﴾ When you finish prayers, remember Allah, standing, sitting or reclining on your sides; but when you are free from danger, set up regular prayers: For such prayers are enjoined on believers at stated times. ﴿۴﴾ (4: An-Nis'a\ 101-103)

3. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَسْتُمْ مِنَ النِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا ﴿۴﴾

مومنو! جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک (ان الفاظ کو) جو منہ سے کہو سمجھنے (نہ) لگو نماز کے پاس نہ

جاؤ اور جنابت کی حالت میں بھی (نماز کے پاس نہ جاؤ) جب تک کہ غسل (نہ) کر لو ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے (نماز ادا کر لو) اور اگر تم بیمار ہو سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں پر مسح (کر کے تیمم) کر لو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ﴿4: 4﴾ (4: 4)

O you who believe! Approach not prayers with a mind befogged, until you can understand all that you say, - nor after sexual intercourse until after taking bath. If you are ill, or on a journey or one of you come from call of nature, or you have been in contact with women, and you find no water, then take for yourselves clean sand or earth, and rub therewith your faces and hands. For Allah is Pardoning and Forgiving. ﴿4: An-Nis'a, 43﴾

### مصارفِ زکوٰۃ Domain of Poor Due

1. اِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ طَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿9﴾  
 صدقات (یعنی زکوٰۃ و خیرات) تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرضداروں (کے قرض ادا کرنے میں) اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں (کی مدد) میں (بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے یہ حقوق) اللہ کی طرف سے مقرر کر دیئے گئے ہیں اور اللہ جاننے والا (اور) حکمت والا ہے۔ ﴿9: 9﴾ (9: 9)

Poor due ('Zakat') is for the poor and the needy, and those employed to administer the funds, for those whose hearts have been reconciled, for those in bondage and in debt; in the cause of Allah; and for the wayfarer: ordained by Allah, and Allah is all Knowing, Most Wise. ﴿9: At-Taubah \ 60﴾

## صلوٰۃ و زکوٰۃ کے فوائد

### Benefits of Prayer and Poor due

1. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ﴿29: Al-Ankabut / y (۴۵)

Verily prayer restrains from indecency and evil. ﴿29: Al-Ankabut\ 45)

2. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿

اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے

﴿

(24: An-Nur / t (۵۶)

So establish regular prayer and give regular poor due and obey the Messenger, so that you may receive mercy. ﴿24: An-Nur\ 56)

3. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿

اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے، اس کو اللہ کے ہاں پالو

گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ ﴿2: Al-Baqarah / 2 (۱۱۰)

And establish prayer and pay poor due regularly, and whatever good you send forth for yourselves you shall find it with Allah. Verily Allah is Well seer of all what you do. ﴿2: Al-Baqarah\ 110)

4. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿

اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اُس سے اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہو تو (وہ موجب برکت ہے اور) ایسے ہی

لوگ (اپنے مال کو) دوچند نہ چند کرنے والے ہیں۔ ﴿30: Ar-Rum / z (۳۹)

And whatever you give as poor due, desiring Allah's pleasure, it is these that shall get manifold. ﴿30: Ar-Rum\ 39)

5. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿

کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقات لیتا ہے اور بے شک اللہ ہی توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ ﴿9: e / 104﴾

Do they not know that Allah accepts repentance from his servants and takes the alms and that Allah is the Oft-Returning, the Merciful. ﴿9: At-Taubah \ 104﴾

(9:At-Taubah \ 104)

مسلمانوں پر صلوٰۃ و زکوٰۃ کے حقوق

## Prayer and Poor Due Obligations on Muslims

1. الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط  
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿22: r / 41﴾

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ ﴿22: r / 41﴾

Those who, if We establish them in the land, establish regular prayer and give regular charity, enjoin the right and forbid wrong and with Allah rests the end of affairs. ﴿22: Al-Hajj \ 41﴾

2. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ط لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ط نَحْنُ نَنْزِقُكَ ط وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿20: p / 132﴾

اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو۔ ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں۔ بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں اور (نیک) انجام (اہل) تقویٰ کا ہے۔ ﴿20: p / 132﴾

Enjoin prayer on your people, and be steady therein. We ask you not to provide sustenance: We provide it for you and the best end is for righteousness. ﴿20: Ta Ha \ 132﴾

3. لَا تَسْجُدْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدْ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ آيَاةً تَعْبُدُونَ ﴿41: ا / 37﴾

تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو۔ بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے۔ ﴿41: ا / 37﴾

Do not prostrate to the sun and the moon, but prostrate to Allah, Who created them and He it is if you serve Him. ﴿41: Fussilat / Hameem As-Sajdah \ 37﴾

(41: Fussilat / Hameem As-Sajdah \ 37)

1. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْبِدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۗ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۗ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿۱۱﴾

اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو کنارے پر (کھڑا ہو کر) اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اگر اس کو کوئی (دنیاوی) فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے (یعنی پھر کافر ہو جائے) اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی۔ یہی تو نقصان صریح ہے۔ ﴿۱۱﴾ (22: Al-Hajj)

And among people are some who serves Allah, as it was on the verge. If good befalls him, he is well content therewith, but if a trial comes to him he turns back head long. He loses both in this world and the Hereafter. That is a manifest loss. ﴿۱۱﴾ (22:Al-Hajj)

2. وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿۱۲۴﴾

اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ﴿۱۲۴﴾ (20: Ta Ha)

“And whosoever turns away from My Reminder, verily for him is a strained life and We shall raise him up blind on the day of Resurrection.” ﴿۱۲۴﴾ (20: Ta Ha, 124)

3. قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۗ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۗ الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۗ وَيَسْتَعُونَ الْبَاعُونَ ﴿۱۰۷﴾

تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے ﴿۱۰۷﴾ جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں ﴿۱۰۷﴾ جو ریاکاری کرتے ہیں ﴿۱۰۷﴾ اور برتنے کی چیزیں عاریتہ نہیں دیتے۔ ﴿۱۰۷﴾ (107: Al-Maun)

So woe to the praying people ﴿۱۰۷﴾ Who are neglectful of their prayers, ﴿۱۰۷﴾ Those who (want but) to be seen, ﴿۱۰۷﴾ But refuse (to supply) (even) neighbourly needs. ﴿۱۰۷﴾ (107: Al-Maun, 4-7)